



## سوال

(196) بیماری کی بنا پر نمازوں کی قضاء

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عمر کی بیوی کی بیماری جب بہت بڑھ گئی کھانسی منٹ منٹ پر آتی تھی پیاس بھی دم بدم لگا کرتی تھی تو نمازوں کی اشاروں سے بھی پڑھنے سے مجبور تھی، اس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں از روئے شریعت اس کے لیے کیا کفارہ عائد ہوتا ہے؟ (محمد ظہور الاسلام خان بستنی)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

متوفیہ کے اولیاء کو چاہیے کہ اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء پڑھ دیں۔ یعنی: جس طرح میت کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اس کے اولیاء رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے تمام فوت شدہ نمازوں کی قضا پڑھیں۔ یا ہر نماز کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ اس طرح دن اور رات کی پانچ نمازوں کے بدلے پانچ مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یا کھانا کھلانے کے بجائے ہر نماز کے بدلے انگریزی سیر کے حساب سے گیارہ چھتتا تک خیرات کر دیں۔

کتبہ عبید اللہ المبارک کفوری الرحمانی مدرس بدستہ دار الحدیث الرحمانیہ بدلی

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 315



## محدث فتویٰ